Lesson 10: Ale Imraan (Ayaat 111 - 120): Day 152

سُوٰرَةُ آلِ عِمرَان كَى تَفْسِر

Ĭ,	ڻ ڀ َّضُ ڙُو کُمُ ا	_ کر
TIL	يَّضُوُّوُكُمُ	كڻ
مر	ضرر پنجائیں گےتم کو	برگز نه
	ف ی تکایف کے سوا کچھ	اور بيتهبين خفيا

ثُمَّر لا يُنْصَرُونَ 🖫	هُ الأَدْبَارَ "	ؙۅٛڴؠ <i>ؙ</i> ؽۅؘڗ۠ۅٛڴ	وَ إِنْ يُتَقَاتِلُ	ا أذًى ا
ثُمَّةً م لاَ يُنْصَرُونَ	مُ الْأَدُبَارَ	كُمُ يُوَلُّوْكُ	اِنْ يُقَاتِلُوُ	اَذًى وَ
پھر نہیں مدودیئے جائیں گے	يتم كو پيچ	ئے تم ہے چھردیں کے	وراكر الزاني كريل	ایذ اتھوڑی ا
لورد دبھی (کہیں ہے) نہیں ملے گ	^	-		
تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ				
قِفُوًا اِلَّا بِحَبْلِ	أَيْنَمَا ثُو	الذِلَّةُ	عَلَيْهِمُ	ضُرِبَتُ
ئے جامیں مگر ساتھ پناہ	جہاں یا_	ذلت 	او پران کے	ماری کئی
ے چٹ ربی ہے	رکیھو گے کہ) ان	گے ذات (کو	جہاں نظر آئیں	<i>*</i>
س ر الله ر في ر و	55.20 Y	ر الآار	w 12/	ш́ (/ ш
<u> </u>				
قِنَ اللهِ وَضُرِبَتُ	زِبَآءُوْ بِغَضَبٍ	النَّاسِ وَ	وَحَبْلِ مِن	قِ نَ اللهِ
، سے الله اورماری گئی				
، کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری				
بُلْفُرُوْنَ بِالْمِتِ اللهِ	لَّهُمُ كَالُـوُا يَ	ُ ذٰلِكَ بِأَنَّ	الْهَسُكُنَةُ	عَلَيْهِمُ
يَكْفُرُونَ بِالْيَتِ اللَّهِ	ر گانُـوُا	الِكَ بِأَثَّهُمُ	الْهَسُكَنَةُ الْمُ	عَلَيْهِمُ
كفركرت ساتھ نشانيوں اللہ ك	له تقوه	ي اس واسطے	نقيرى	او پران کے
یتوں سے انکار کرتے تھے	لیے کہ اللہ کی آ	یے اس	لیٹ ربی ہے۔	ان ہے
بِهَا عَصُوا وَّ كَانُوْا	حَقِّ ذَلِكَ	آءَ بِغَيْرٍ -	أِنَ الْأَنْكِيدَ	وَيَقْتُلُو
عَصَوا قً كَانُوا	دُٰلِكَ بِهَا	بِغَيْرِحَقٍّ	الأثبِيّاءَ	وَيَقْتُلُوْنَ
ہے کہ نافرمانی کی انہوں نے اور تھے		J?t	يغمبرول كو	اور مار ڈالتے تھے
ربینا فرمانی کیے جاتے اور حدے	بياس كيے ك	فل کردیے تھے۔	ں کے) پیغمبروں کو ناحق	اور(17

: يَتُلُونَ	فآيِمَةُ	أصفاقا	كِلْتُبِ	نُ أَهُلِ الْ	أعرم	سُو اسَو	ئ ﴿ لَيْ	تكأور	يُعُ
يَّتُلُوْنَ	قَاٰبِمَةُ	أَمَّةُ	اب ا	اَهُلِ الْكِ	مِن	سَوَاعً	لَيْسُوُا	رُوْنَ	يَعْتَا
ن پر پڑھتے ہیں	قائم ہے دین	نماعت ہے	اب ایک:	اہلِ کتا	_	212	نہیں وہ سب	ر جاتے	حدے نکا
9	قائم بھی ہیں	علم الله ير)	ب کھلوگ(ح	يں ان اہلِ كتاب مير	یک جیسے نہیں ہ	بي بھى سبآ	تق 🐨	ھےجاتے	z.
و و الْيَوْمِ	وإلله	ئُوْنَ	٣ يۇم	جُـدُونَ	<u>َمُريَّتُ</u>	ئىل <u>ل</u> ۇھ	وانآءا	تِالله	اليه
وَالْيَوْمِ	بِاللهِ	مِنُوْنَ	نَ يُؤْوِ	يَسُجُدُونَ	وَهُمُ	الَّيْلِ	آثًا ءَ	الله	اليتِ
				مجده کرتے ہے					
				گے) تجدے کرنے					
		$\overline{}$		و يَنْهُوْل				_,_	
يُسَارِعُوْنَ	لَرِ وَيُ	الْهُنْتَ	عَنِ	وَيَنْهَوْنَ	رُو ْ فِ	بِالْمَعْ	يَأْمُرُونَ	رٍ وَ	الأخِ
جلدی کرتے ہیں	اورج	براكي	-	اور منع کرتے ہیں	ائی کے	ساتھ بھا	رحکم کرتے بیں	2 او	آخرت
ع کرتے	ں ہے رُ	بری باتور	تے اور	م کرنے کو کیے	ور التجھے کا	1	ركھتے	بر ایمان	
				24.000					Toronto and the
نُخيرٍ	لُوْامِر	مَايَفُعَ	<u> </u>	الصّلحِيْر	<u> </u>	<u>وَاُولَٰئِلٍ</u>	ؙٳؾؚؖ	ڶڂؘؽ	في
ا خَيْر	ا م:	يَفْعَدُ	وَمَا	الصلحين	من	أولنك	ت ر	الُخَارًا	في
ا خَيْر	ا م:	يَفْعَدُ	وَمَا	الصلحين	من	أولنك	ت ر	الُخَارًا	في
ئ خمير ا بملائ ان ع	ا مِن کے ہے ح کی نیکی کر بے	يَفْعَلُوْ كرين بيرجس طررا	وَهَا اورجو پکھ اور	الصليحييْنَ سالحوں بين	مِنَ سے ںاوگ نیکوکار	اُولَٰکِپِكَ ریدادگ بیں اور جَ	تِ وَ کے او کتے ہیں۔	الْحَدِيرُ بھلائيوں بنييوں پرلچ	فی چ
ئ خمير ا بملائ ان ع	ا مِن کے ہے ح کی نیکی کر بے	يَفْعَلُوْ كرين بيرجس طررا	وَهَا اورجو پکھ اور		مِنَ سے ںاوگ نیکوکار	اُولَٰکِپِكَ ریدادگ بیں اور جَ	تِ وَ کے او کتے ہیں۔	الْحَدِيرُ بھلائيوں بنييوں پرلچ	فی چ
ئ خمير ا بملائ ان ع	ا مِنَ 2 ہے 3ک نئی تریا نین گ ؤ	يَفْعَلُوْ كرين بيرجس طررا	وَهَا اورجو پکھ اور	الصليحييْنَ سالحوں بين	مِنَ سے ںاوگ نیکوکار	اُولَٰلِكَ رياوگيں اور وَاللّٰهُ	تِ وَ ك او التي التي التي التي التي التي التي التي	الْحَدِيرُ بھلائيوں بنييوں پرلچ	في الا الا
ن خینو برع برع مرواکن رواکن رواکن برع برازند	ا مِن 2 3 ک نگی کریم ئین گگا ن گلفا اس گلفا	يفْعَلُوْ كرين بين <i>حسطر</i> را الكني	وَمَا اور جو پکھ اور اور	الصلحين سالوں بين المشقين بالمشقين بالمشقين	مِنَ عَلِيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلِيْكُمُ غَلِيْكُمُ غَدوالا ہے	اُولَّنِكَ رياوَگ بين اور بَرَ وَاللّهُ وراللهٔ اورالله جا۔	تِ وَ کے او کے ہیں۔ فروگا و فروگا و فروگا	الْحَيْرا بعلائيوں زيكيوں پر لچ في الله في الله من الله كُلُفَارًا من الله كُلُفارًا	نی اور قلر قلر نیل برگزن
ن خینو برع برع مرواکن رواکن رواکن برع برازند	ا مِن 2 3 ک نگی کریا ئین گگا ن گلاً	يَفْعَلُوْ رَيرَ بي ^ض طررا الكنِ الكذِينَ	وَمَا اورجو پکھ اور اور السنگ السنگ	الصلحين سالوں بن المُتقفين بالمُتقفين	مِنَ عَلِيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلِيْكُمُ غَلِيْكُمُ غَدوالا ہے	اُولَّنِكَ رياوَگ بين اور بَرَ وَاللّهُ وراللهٔ اورالله جا۔	تِ وَ کے او کے ہیں۔ فروگا و فروگا و فروگا	الْحَيْرا بعلائيوں زيكيوں پر لچ في الله في الله من الله كُلُفَارًا من الله كُلُفارًا	نی اور اور فکر نیل برگزن
ن خینو برع برع مرواکن رواکن رواکن برع برازند	ا مِنَ 2 ح 3 ک نیک کریم نین گ ایک گافرہ اوگ کافرہ اوگ کافرہ	يَفْعَلُوْ ري ري الكِنِ الكَذِينَ ولوگ	وَمَا اورجو پکھ اور اور السی السی ایک	الصلحين سالوں بين المشقين بالمشقين بالمشقين	مِنَ عَلَيْهُ مُنَّ عَلِيْهُ مُنْ عَلِيْهُمُّ غَلِيْهُمُّ نِهُ والا بِ	اُولَیْکِ ریاوگ بیں اور اَن وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اورالله جا۔ اورالله جا۔	تِ وَ کے او کے ہیں۔ فروگا و فروگا و فروگا	الْحَيْرا بعلائيوں زيكيوں پر لچ في الله في الله من الله كُلُفَارًا من الله كُلُفارًا	نی اور قلر قلر نیل برگزن
ن خير برك برك فرواكن رواكن رواكن رواكن والبيك وأواليك	ا مِنَ ک کے کے ٹنگری ٹنگری گار اوگ کا اوگ کا	يفْعَلُوْ ري ري الكن الكن الكن ولاك جولوگ	وَمَا اورجو پکھ اور اور السی السی ایک	الصليحين سالون ين ين المشقين بالمشقين بالمشقين نوبجاناه	مِنَ عَلَيْهُ مُنَّ عَلِيْهُ مُنْ عَلِيْهُمُّ غَلِيْهُمُّ نِهُ والا بِ	اُولَیْکِ ریاوگ بیں اور اَن وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اورالله جا۔ اورالله جا۔	تِ وَ کے او کے و و و و کو و و و کو و و و کو و کو و کو و ک	الُخَيْرِ بعلائيوں بيكوں پر لپ نيكوں پر لپ ئي يُكُفَّرُ بى كا فاقدركا بى كى ناقدركا	نی اور اور فکر نیل برگزن
ن خیر برگ برگ فرواکن روا کن فرین ولیک والیک والیک اوریاوگ	ا مِنَ ك يَن كَن رَبِ ف ك يَن كَنَ ف ك كف اوك كافره عاط وأ	يَفْعَلُوُ رَي الَّنِ الَّذِينَ الَّذِينَ جواوگ خواوگ خواوگ خواوگ خواوگ خواوگ خواوگ خواوگ خوا	وَمَا اورجو کچھ اور اور انگ الگ بیک بیک بیک مین	الصليحين سالون ين المُتقفين بالمُتقفين بالمُتقفين فربجاناهي ولادهم ق	مِنَ الوگ نیوکار مرکیده مراج علیه هر اخوالا ب اجرزگاروں کو مرکو لا کا اور نہ اور نہ	اُولَيْكَ ريادگ بي اور الله وَالله اورالله اورالله مُواله المان ك	رت و المسترات و المست	الُخَيْر بهلائيوں رئيوں پر اپُ ئن يُكُفَّرُ برى عاقدرى مى عاقدرى مى عاقدرى	نی اور اور ایس برگزن ایس برگزن

بِقُوْنَ فِي	_ص ُمايُنُة	سَ مَثُ	ئەۋن	فِيْهَاخْلِ	ڔؚٷؙٛۿؙؙؙؙۿؙ	بُالثَّا	أضل
فِقُونَ فِي	مًا يُنْ	مَثَلُ	بدُوْنَ	نِيُهَا خَلِ	هُمُ	النَّادِ	أصُحٰبُ
المرتين الح	اس کی جو خرط	مثال	بنےوالے	اس کے ہمیشدر	وه بين 🕏	آگ	رہنے والے ہیں
ازندکی	ىيەجومال دنيا كى		<u> </u>	ه بمیشدای میں ربیر	5	بادوزخ بي	الجر
رُثَ قُوْمٍ	مابَتُحَ	ؠڗۜٞٲؘؘؘ	وفيهام	ؠؙؖؿٙڸؚڔؽؖڗ	لدُّنْيَاكُ	حَيُوقِا	هنيوال
رْثَ قَوْمِ	نمابَتُ حَ	بعرٌّ أَحَ	فِيُهَا و	رِ دِيْجِ	رُنْيَا كَمَثَ	عَيْوةِ الْ	هٰ نِهِ الْ
کھین کو ایک قوم ک کھیت	چی ا	ากั	نے اس کے	نال ایک واتے ہے ک	نیا کی انتدمثر	رگانی و	ای (ن
ھیتی پر جو د و	یسے کولوں <u>ن</u> ا ا س	و اور وه ا. - ا	بن شخت سردی به مه سه	ای ی ہے جس	اس کی مثال ہوا	رتے ہیں	میں قریج
نَفْسَهُمۡر							
ٱنْفُسَهُمْ							
ده جانون اپنی کو							
يخودا پئے او پر	بجظلم نبين ئيا بلكه،	لله نے ان پر	ے۔ اورانا	. اوراے تباہ کرد	تے تھے چلے	ب پر ظلم کر	اپ آپ
			-	77130			
و سع		2	. 411	و برار ه	· W., -9	ر ب	120,00
نُ دُوْنِكُمُ	<u>ڟٳڬڐؖڝؚؖ</u>	ئۇۋا <u>ب</u> ۇ	لَاتَتَّخِ لَاتَتَّخِ	يُنَامَنُوا	يُّهَاالَّذِ	نَ ﴿ يَا	يَظْلِمُوْا
مِّنُ دُوْنِكُمُ	بِطَانَةً	تَّخِذُوا	لَا تُ	أمَنُوا	الَّذِيْنَ	يَآيُّهَا	يَظْلِمُوْنَ
قِبْنُ دُونِنِكُمُ سوائے اپنے	بِطَانَةً روست دل	تَّخِلُوْا كَيْرُو	لا تَدُ	أَمَنُّوُا ايمان لائے ہو	الَّـذِيْنَ جو	يَّا يُنْهَا اےلوگو	يَظْلِمُونَ ظَمِرَةِ تَحَ
قِسِنُ دُوْنِكُمُ سوائ اپنے سے اور فتنہ انگیزی	بِطَانَةً دوست دل ئىجارى خراني (تَّخِذُوُا كَيْرُو رنه بنانا بيالوًّا	لاً تُنَّ مت س) کواپنا راز دا	امَنُوْا ایمان لا ہے ہو بر (ندہب کے آدی	الَّـنِيْنَ جو مومنوا کي غي	يَّا يُنْهَا الحاور بح بين	يَظْلِهُوْنَ ظَلْمُ كَرِيْتِ ظلم كرتِ تِيْتِ ظلم كرري
قِسِنُ دُوْنِكُمُ سوائ اپنے سے اور فتنہ انگیزی	بِطَانَةً دوست دل ستمباری خرابی (تَّخِذُوُا كَيْرُو رنه بنانا بيالوًّا	لاً تُنَّ مت س) کواپنا رازدا	أَمَنُّوُا ايمان لائے ہو	الَّـنِيْنَ جو مومنوا کي غي	يَّا يُنْهَا الحاور بح بين	يَظْلِهُوْنَ ظَلْمُ كَرِيْتِ ظلم كرتِ تِيْتِ ظلم كرري
قِسِنُ دُوْنِكُمُ سوائ اپنے سے اور فتنہ انگیزی	بِطَانَةً روست دل متباری خرابی (البَعْد	لَّحِنْدُوْا کَبُرُو رند بنانایداوگر کا کِکانِ	لاً تُنَّ مت س) کواپنا رازدا	امَنُوْا ایمان لاۓبو بر (ندہب ۓ آدو اِ کَ عَنِهُ	الَّـنِيْنَ جو مومنوا کي غي	يَّائِيُّهَا اعادر مِين© گُمُم خَبَ	يَظْلِهُوْنَ ظَلْمُ كَرِيْتِ ظلم كرتِ تِيْتِ ظلم كرري
مِنْ دُوْزِکُمْ سوائے اپنے سے اور فتندائگیزی میں ایکی میں سائی مِن	بِطَانَةً روست دل تمباری خرابی (البغه کوری ت البغه کوری ت البغه	تَّخِذُوْا كَرْدِ رند بنانايه لوگ أُ كِلَانِ نُوْلُ كِنْ نُوْلُونِ	لَا تَدُ مت س) کواپنا رازوا میر تخر میر قر	امَنُوْا ایمان لاۓبو بر (ندہب ۓ آدو اِ اَ اِ اَ عَنِهُ	الَّـذِيْنَ جو مومنوا کس نیم الگر ^ط وَ دُّوْدًا لاً وَدُوْدًا	يَّائِيُّهَا اعادر مِين© گُمُم خَبَ	يَظْلِهُوْنَ ظُمِرَةِ عَدِّ ظُمِرَةِ عَدِّ لا يَالُوْدُ
مِّنُ دُوْزِلُمْ سوائے اپنے سے اور فتند انگیزی می ایکٹر مین می ایکٹر میں میں ایکٹر میں میں ایکٹر میں میں ایکٹر میں میں ایکٹر میں میں ایکٹر میں میں ایکٹر میں ایکٹر میں میں ایکٹر میں ایکٹر میں میں ایکٹر میں ایکٹر میں ایکٹر میں میں ایکٹر میں ایک	بِطَانَةً روست دل تنهاری خرابی (البُغُدُ بِ الْبَغُدُ رمونَ نا	تَّخِذُوْا کیرو رند بنانایداوگ کا کیک ن بنک ن بنک	لا تُ	امَنُوْا ایمان لاۓبو بر (ندہب ۓ آدو اِ اَ اِ اَ عَنِهُ	الَّذِيْنَ جو مومنوا کس ني الگر ^ط وَ دُّوُوْا لاً وَدُّوُوْا	يَّا يُنْهَا ا _ اوگو به بین ⊕ اگم خکب اُهُ خکب اُهُ خکب اُهُ خکب اُهُ خکب اُهُ خکب	يَظُلِمُوْنَ ظَمَرَتِ شَے ظَمرَرِتِ لا يَأْلُوْدً لا يَأْلُوْدً نبين كَنرِتِهِ
مِّنُ دُوْرِکُمُ سوائے اپنے سے اور فتندائگیزی مُن اُمُو مِن ضَاءُ مِن فری سے تو	بِطَانَةً المِنْ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمَائِةُ الْمِنْ الْمَائِةُ الْمِنْ الْمَائِةُ الْمَائِقُ الْمِنْمُ الْمَائِقُ	تَنْجِنْ وُا کرو رند بنانا یہ لوگ ک بک ب ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن	لا تُ	امَنُوْا ایمان لائے ہو بر (ندہب کے آدؤ ایما عزیہ ایما عرب ایداد	الَّنْ يِنْ أَ جو مومنوا كس غير الكرط وَدُوْدا لا وَدُوْدا في من ورست رسطة وتاى نيس كرت	یکائیگها اے اوگو کی مخبک گرم خبک ایم خبک ایم خبک ایم خبک ایم خبک ایم کسی طرح کاک	يَظُلِمُوْنَ ظَمَرَتِ شَے ظَمرَرِتِ لا يَأْلُوْدً لا يَأْلُوْدً نبين كَنرِتِهِ
مِّنُ دُوْرَكُمُ موائداً الخِرِي اورفتداً عَمِن المَّنَّاءُ مِن المَّنَّاءُ مِن المَّنَّاءُ مِن المَّنَّاءُ مِن المَّنَّاءُ مِن المَّمُ الأبيتِ المُّمُ الأبيتِ	بِطَانَةً الرَّانَةُ الرَانَةُ الرَّانَةُ الرَّانَةُ الرَّانَةُ الرَّانَةُ الرَّانَةُ الرَانَةُ الرَّانَةُ الرَّانَةُ الرَانَةُ الرَانَانَةُ الرَانَةُ الرَانَةُ الرَانَةُ الرَانَانَةُ الرَانَانَةُ الرَانَةُ الرَانَةُ الرَانَةُ الرَانَانَةُ الرَانَةُ الرَانَانَةُ الرَانَةُ الرَانَانَةُ الرَانِقُولَانِينَانَانِ الرَانَانَةُ الرَانِقُولَانِ الرَانَانَةُ الرَانِقُولَانِ الرَانَانَةُ الرَانِقُولَةُ الرَانِقُولَانِ الرَانَانَةُ الرَانِقُولَةُ الرَانِيلَةُ الرَانِقُولَةُ الرَانِقُولَةُ الرَانِقُولَةُ الرَانِقُولَةُ الرَانِقُولَ	تَنْجِفَوْدُو کیرو رند بنانایی لوگ ن کیک ف ن ک ک ن ک ن	لا تُن س اکواپنا رازدا کر ت کار بندگام ق بن پروتم الحقی جس طرح ہوا آ کیر اگریر اگریر	امَنُوْا ایمان لائے ہو بر (ندہب کے آدو ا ما عزا اور چاہے ہیں کدا اور چاہے ہیں کدا صُدُورُهُمُمُ	الَّن يُنَ مومنوا كمي غي الاً وَدُوْا لاً وَدُوْا في روست رَحِة وتاى نيس كرت وتاى نيس كرت وتاى نيس كرت	يَّائِيُهَا الله الله الله الله الله الله الله الل	يَظُلِهُوْنَ ظَمِرَةِ عَ ظَمِرَةِ عَ لا يَالُوْدً نين كرة نين كرة كرن أفواهِهِمُ
مِّنُ دُوْزِئُمُهُ موائے النظامی الدون تندائگیزی مُن الله مِن الله الله مِن الله الله الله الله الله الله الله الل	بِطَانَةً المِنْ الْمَائِةُ الْمَائِقُ الْمَائِلُولُوالْمِنِي الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِلُولُولِي الْمَائِلُولُ الْم	تَخِفُوْا رند بنانا يه لوگ نُ بَكُ فِ نُ بِهِ طَ فَا مُهِمِن تَكِيفُ مُهمِن تَكِيفُ مُهمِن تَكِيفُ مُهمِن تَكِيفُ مُهمِن تَكِيفُ مُهمِن تَكِيفُ مُوطِ فَقَالُهُ مُوطِ فَقَالُهُ مُوطِ فَقَالُهُ الْمِالِّ	لا تَدُونِ الرازدا لَيْ الله الله الله الله الله الله الله الل	امَنُوْا ایمان لائے ہو ار ندہب کے آدی اور ایک عزید اور جائے ہیں کدا اور جائے ہیں کدا	الَّذِينَ مومنوا كَن غِ اللَّا وَدُوْا في روست رَحة وتائ نيس كرت وتائ نيس كرت وتائ في في تُخْفِي في	ایائیها ایائیها ایستانی ایستان ای ادی ادی ادی ادی ادی ادی ادی ادی ادی ا	يَظُلِمُونَ ظَمَرَةِ عَ ظَمَرَدِ عَ لا يَالُوْدُ نين كَرَةِ نين كَرَةِ كرني ع افواهِهِ افواهِهِ منان كَ

la I				9	. , ,	7			ے و و	L I	
		تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا									
وست رکھتے وہتم کو	اورنبيس و	منتے ہوتم ان کو	دوست رکھ	ودلوگ که	اربوتم	<i>بر</i> ه	28.		بوتم	Si	
ا بنی آیتیں کھول کھول کرسنادی ہیں 🕾 دیکھوٹم ایسے (صاف دل) اوگ ہوکدان اوگوں سے دوئی رکھتے ہوجالانکہ وہتم سے دوئی نبیس رکھتے											
وَتُوْمِنُونَ بِالْكِتْبِ كُلِّهِ ۚ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوۤ الْمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَوْا											
ذَا خَلَوْا	15	امَنَّا	قالنوا	<u>ق</u> ُوْكُمْ	Í 15	وا	، گلِّم	بِالْكِشبِ	وُنَ	وَتُؤْمِدُ	
ب ليد بحة بي	يجهم أورج	ايمان لائے	ے کہتے ہیں	و کرتے ہیں تم ۔	ب ملاقات	کے اور چہ	ساری_	ساتھ کتاب	79.2	اورا بمان لا _	
یں اور جب	خآك	تے ہیں ہم ایمان	ملتے ہیں تو کھ	اور جب تم سے	فیس مانتے)	ری کتاب کو	منے ہو(اوروہ تمہا	م پرایمان ر <u>کھ</u>	ب كتابور	اورتم-	
ادرتم ب كابوں پرايمان ركتے بو (اور وہ تمبارى كتاب كؤيس مائے) اور جب تم ياق كتي بين تم ايمان كي اُوجب اور جب عض وُ الكَ يُكُورُ الْأَنَا مِلَ مِنَ الْغَيْظِ " قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِ مُ											
بِغَيْظِكُمُ	ۇ ئىۋا ۋىشۇا	لُ مُ	لِل قُ	الْغَيْخ	مِنَ	بلَ	الْآنَاهِ	مَلَيْكُم <u>ُ</u>	=	عَضُوْا	
نحصا ہے ہے	مرجاؤ	٠,-		غص	_		الكليا	تمبارے	اوي	كاتي	
ں مر جاؤ۔	تو) غصے م	ېدو که (ېد ^{بخ}	ن ہے) کم	تے ہیں۔ (اُر	کاٹ کھا۔	نيال كاث	کے سبب انگا	يا توغصے	ہوتے ہیں	الگ	
كَسَنَةٌ	گُمُر۔		اِنُ تَا	ۇر	صُّلُ	تِ ال	ر بِنَ اد	عَلِيْكُ	الله	اِٿَ	
حَسَنَةٌ	ىگە	تپسَد	اِنْ	ر ئۇر	تِالصُّ	بِذَاد	عَلِيْتُ		الله	اِٿ	
كيملائي	اکو	لگة	اگر		ه والى بات كو	<u> </u>	انتاب	,	الله	بيثك	
صل ہو	سورگی حا	ر خهبیں آ	آ	(F)	واقت	ہے خوب	لى باتوں .	ے دلوں ک	تبهار_	الله	
صُبِرُوْا	اِنُ	<u>ه</u> ا و	حُوابِ	<i>ڐ</i> ۠ؾٞڡؙ۬ۯ	سَيِّئُ	لَّمُر) تُصِ ب ُ	وإل	هُمُ	لتُسُؤُ	
تَصْبِرُوْا	وَإِنْ	بِهَا	حُوْا	يَّفْرَ-	سَيِئَةٌ	1	تُصِبْكُ	وَإِنْ	نم	تَسُؤُهُ	
صبر کروتم	اورا کر	اتھاں کے	تين سا	خوش ہو۔	برائی		بنجة كو	اوراگر		ناخوش کرتی .	
(ان ہے)	ثت اور (ں کی بروا	كرتم تكليفو	خ بیں اور ا	خوش ہو_	مبنچ تو	اور اگر رنج	مالگتی ہے	ن کو برو	ق ال	
يُطُّ	<u>ئ</u> مُحِ	يغمكأوا	للهَيِمَا	_			كُمْرَكَّيْدُ		والأ	وَتَتَّقُ	
نَ مُحِيْظ	يَعُمَلُوْلُ	بِهَا	الله	اِٿَ	شَيُّ	اُهُمْ ا	مُ كَيْدُ	ۘؽڞؙڗؙڴ	ý	وَتَتَّقُوْا	
	وه کرتے	نھائ چ <u>ن</u> ےکہ	الله سام	بيثك	8.	ران کا		ضرد کرے		اور پر ہیرگاری ک	
© ∠2	عاطه کیے ہو	الله ال	12 /84	اسكے گا۔ پہ جو	تصان نه پہنج	ين ليجه بحق	ن كافريب تمهج	نے رہو گے تو ا	الشي كر_	كنار	

آیات کی تفسیر؛

لَنْ يَعْرُو كُمْ إِلَّا أَذًى ﴿ وَإِنْ يُقَاتِلُو كُمْ يُولُّو كُمُ الْاَذْبَارَ ١١١ هُمَّ لَا يُنْصَرُون ﴿ ١١١ ﴾

وہ تم کوہر گز کوئی ضررنہ پہنچا سکیں گے مگر ذراخفیف سی اذبت اور اگروہ تم سے مقابلہ کریں تو تم کو پیٹھ دیکھا کر بھاگ جائیں گے پھر کسی طرف سے ان کی حمایت بھی نہ کی جاوے گی۔

یہاں سے سبق کا آغاز ہے لیکن اِن کاموضوع پچھلی آیات والا ہی ہے۔ مدینہ میں یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ظاہری طور پر تو دوستیاں قائم رہیں کیونکہ اسلام دوسر وں کے ساتھ بھی محبت اور بھلائی کا تھم دیتا ہے لیکن یہود کے دِلوں میں مسلمانوں کے لئے حسد تھا۔ خاص طور پر اللہ کے نبی کے مدینہ آجانے سے یہود کی اجارہ داری قائم نہ رہ سکی تو یہود اللہ کے نبی سے دِل میں دُشمنی رکھتے تھے۔ یہود اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کا شخ میں گئے ہوئے تھے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھارہے ہیں کہ نے جاؤ۔ یہ یہود تمہارے وُشمن ہیں۔اللہ ہمیں مصیبت آنے سے پہلے خبر دار کررہے ہیں۔ جس طرح والدین بچوں کو وقت سے پہلے سمجھارہے تھے۔اور خیر خواہ دوست آپ کو مصیبت سے پہلے سمجھادیتے ہیں۔اللہ یہود کا بھی رَبّ ہے۔لیکن اللہ کو اُن کے اندر کی بھی خبر ہے۔کل یہ آیات یہودِ مدینہ کے بارے میں تھیں آج سارے اسلام وُشمن عناصر کے لئے ہیں کہ پہلے تو مسلمانوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں یا اگر مسلمان مصیبت میں بچینں جائیں تو او پرسے مدد اور ایڈ کے نام پر تمہارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اندرسے دشمن ہیں۔

یہ تمہیں معمولی نکلیف یاضر ریہ نجاسکیں گے۔ میڈیاسے خبریں چھاپیں گے۔ مسلمانوں کے خلاف پر اپیگنڈ اکرینگے۔ جنگ میں بھی معمولی قشم کی نکلیف پہنچاسکیں گے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہودنے میدانِ جنگ میں مقابلہ نہیں کیا۔ یہود پرانے وقت میں بھی سازشیں کرتے تھے۔جوشخص مال سے محبت کرتا ہے وہ مرنے سے ڈرتا ہے۔ اللہ بخیل شخص سے بہادری چھین لیتا ہے۔ یہود باتیں اور دھمکیاں توخوب دیتے ہیں لیکن دوسروں کے کندھے پررکھ کربندوق چلانے والے ہیں۔

مدینہ کے یہود اثر ور سوخ والے لوگ تھے۔ اِن میں خیبر کے مقام پر ایک شخص مرحب تھاجس نے علی سے مقابلہ کیا تھا اور علی جیت گئے تھے۔ یہود نے اپنے لئے قلعے بنائے ہوئے تھے مشکل وقت میں وہاں محبیب جاتے تھے۔ اِن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں کیونکہ اِن کے یاس مال بھی تھا اور اسلحہ بھی۔

انسان دوسروں کی طاقت اور ترقی ومال دیکھ کرڈر جاتا ہے کہ اِن کے پاس اتنا پچھ ہے یہ تو مجھے ہر ا دینگے۔اُس وقت بھی مسلمان کمزور تھے اور دیکھا جائے تو آج بھی یہی حالات ہیں۔اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ فکرنہ کرویہ تمہارازیادہ نقصان نہیں کرسکتے۔یہ تمہیں مٹانہیں سکیں گے۔

اللہ کے رسول مدینہ میں دس سال تک رہے لیکن یہود نے خود کبھی کوئی مقابلہ نہیں کیا کوئی جنگ نہیں لڑی۔ ہر جنگ کے بیچھے اِن کا ہاتھ ضرور ہوتا، دو سرول کی حوصلہ افزائی بھی کرتے لیکن خود جنگ نہ لڑی۔ ہر جنگ کے بیچھے اِن کا ہاتھ ضرور ہوتا، دو سرول کی حوصلہ افزائی بھی کرتے لیکن خود بیچھے بیچھ کر لڑتے۔ دِل چسپ بات یہ ہے کہ یہود کا آج بھی یہی حال ہے، دو سرول کو لڑواتے ہیں خود بیچھے بیچھ کر سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی یہود کی فطرت بتارہے ہیں؛

"اگروہ تم سے مقابلہ کریں تو تم کو پیٹھ دیکھا کر بھاگ جائیں گے پھر کسی طرف سے ان کی حمایت بھی نہ کی جاوے گی۔" یہ تین قبیلے تھے۔ بنو نظیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ تینوں کو انجام یہی ہُوا۔ اِن کے مر د مارے گئے یابھاگ گئے اور باقی کے لوگ مدینہ سے نکال دیئے گئے تھے۔ وہ خیبر چلے گئے تھے۔

سوچیں کسی مسلمان کی کتنی بڑی جیت ہوگی اگر کسی علاقے سے یہود کو نکال دیاجائے اور مسلم حکومت قائم ہو جائے۔ پھر عمرِ فاروق کے دور میں وہاں سے بھی نکال دیئے گئے اور بیت المقدس بھی فتح ہوگیا۔ پوراعرب اِن سے پاک ہوگیا۔

ہمارے لئے سبق کی بات ہے کہ نااُمید نہ ہوں ہمت کریں۔ کسی کا حق نہ مارولیکن اپنا بھی نقصان نہ کرو۔ اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑوا پنے حق کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔

آپ سوچیں اللہ کے نبی اور صحابہ کر اللّم کو بیہ آیات سُن کر کتنا سکون ملاہو گا۔ اور آج ہمارے لئے بھی سکون کا باعث ہیں۔ اور اللہ نے یہود کو ذلیل کر دیا۔

اِس کی وجہ کیاہے؟ کیاہم مسلمان اللہ کے بیارے ہیں؟ نہیں وجہ اگلی آیات میں دیکھیں۔

ضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ النِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْ اللَّهِ بِعَبْلِ مِّنَ اللّٰهِ وَ حَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ عَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَعَبْرِ بَاللّٰهِ وَعُرِبَتُ عَلَيْهِ مُ الْبَسْكَنَةُ وَلَيْ إِللَّهِ اللّٰهِ وَعُرُبِ اللّٰهِ وَعُرِبَتُ عَلَيْهِ مُ الْبَسْكَنَةُ وَلَيْ اللّٰهِ وَعَلَيْهِ مُ اللّٰهِ وَعَيْرِ عَتِي وَلَيْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ مَا وَكُنُواْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَالَا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَى الللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّلْمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَالْمُ وَاللّٰهُ وَالّٰهُ وَاللّٰهُ وَ

سورة البقره آیت 61 میں بھی ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی۔

ان پر ذلت چھاگئی جہاں کہیں بھی بیہ پائے جائیں۔ یعنی اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ دُنیامیں کہیں بھی چلے جائیں۔ مسکنت ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔

ا اِلَّا بِحَبُلٍ مِّنَ اللهِ --- به اس طرح ہی نج سکیں گے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔اللہ کی رحمت میں آ جائیں۔اللہ کی رحمت میں آ جائیں۔اللہ ان کوعزت عطا کر دے گا۔

وَ حَبُلٍ مِنَ النَّاسِ _ _ یا پھر دوسری صورت ہے ہوگی کہ کسی مسلمان ملک میں ذمّی کی حیثیت سے رہیں۔ مسلمان اِن پر حاکم ہوں۔ یا کوئی مسلمان اِن کو پناہ دے دے۔ جیسے آج کوئی سیاسی پناہ لے۔ یا پھر کسی غیر مسلم حکمر ان سے جاکر پناہ ما نگیں اور وہ ان کی بُشت پناہی کر دے۔ آج آپ دیکھ لیں۔ کہ عیسائی اور مسلمان ریاستیں اور ملک تو ہیں۔ لیکن اسر ائیل آج بھی دوسروں کے پیچھے مجھپ کر بیٹا سے۔ دوسروں کی طرف مدد کے لئے دیکھتا ہے۔ یورپ سے مدد لے کر بیٹھے ہیں۔

اور مستحق ہو گئے غضبِ اللی کے اور جمادی گئی ان پر پستی۔۔۔ انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ ان پر پستی اور مسکنت چھا گئی ہے۔ اللہ نے اِن پریہ مشکلات ڈالی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ؟

" یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہوجائے تھے احکام الہیہ " کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ جیسے آج کوئی قر آن کو نہ مانے۔ دوسری بات یہ کہ قر آن کو اللہ کا کلام توما نیں لیکن پھر اس کے احکام پر عمل نہ کریں۔ اس میں آج کچھ مسلمان بھی شامل ہیں۔ یہود نے موسیٰ کے بعد کئی آیات سے انکار کیا، معنی تبدیل کر لئے۔ احکام پر عمل نہ کیا۔ تو اللہ کاغضب کن لوگوں پر آتا ہے؟ مسکنت کن لوگوں پر جمادی / چھاجاتی ہے؟ چاہے یہود ہوں یا مسلمان یاعیسائی، یہ حکم سب کے لئے ہے۔

- جولوگ اللہ کے کلام کا انکار کریں۔
- جولوگ اللہ کے احکام پر عمل نہ کریں۔
- انبیاء کراٹم کو قتل کرتے تھے۔ (آج کے زمانے میں مسلمان علماء کراٹم کی تکذیب اور قتل)
 - الله کے احکام کی نافر مانی کرتے ہیں۔
 - الله کی حدود سے نکلتے ہیں۔

اللہ نے یہود کی تین سزاؤں کی بات کی ہے۔ ذلت۔ غضب۔ مسکنت

عربی زبان میں مسکنت۔ دل شکستہ ہونے ، افسر دہ ، اس حد تک کہ وہ اپنے آپ کو بے بس اور کمزور سمجھے۔ عزتِ نفس دَم توڑ دے اور دولت کی کثرت کے باوجو داپنے آپ کو غریب سمجھے کے۔ اور وہ غلبہ اور اقتداریعنی جاہ ہونے کے باوجو داپنے آپ کو غریب سمجھے۔ اس حالت کو مسکنت کہتے ہیں۔ یعنی سب کچھ ہے لیکن اپنے آپ کو مسکین سمجھا ہے۔

عربی زبان میں ذلت۔ اگر کوئی کسی کی دولت کو چھین لے اور اُسے ذلیل ورُسوا کر دے توالیبی حالت کو ذلت کہتے ہیں۔

اللہ نے یہود کو بیہ دوسزائیں دیں کہ بیہ کروڑ پتی ہونے کے باوجو دانتہائی کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں۔ اور پیسہ بچانے کے لئے گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی عزتِ نفس ختم ہو چکی ہوتی ہے اس لئے دوسروں پر زیادتی بھی کرتے ہیں۔ قتل وغارت کا بازار گرم رکھتے ہیں۔ ڈھٹائی سے ظلم اور جُرم کرتے ہیں۔ ظلم زیادتی کرنے کے بعد اُن کو احساس بھی نہیں ہو تابیہ انسانیت سے گرنے کی بات ہے۔ جیسے بیں۔ ظلم زیادتی کرنے کی بات ہے۔ جیسے بُڑانے دور میں لوگوں کو قتل کرکے اُن کی کھو پڑی میں شراب پیتے تھے۔

انسان یہ سب اُس وفت کر تاہے جب بندے کے دِل میں اپنی عزّت نہ رہے۔انسان بے شرم اور ڈھیٹ ہو جا تاہے۔ بعنی غلط کام کرنے کے بعد ان کا احساس ہی مر دہ ہو چکا ہو تاہے۔ <mark>یہ اللّٰہ کی طرف</mark> سے سزاہے۔ مزید مال کمانے کا لالچے ان کے دل میں ہو تاہے۔

بنی اسر ائیل کا بہترین دور داؤڈ و سلیمان کا دور تھا۔ موسی کے دور میں بنی اسر ائیل کو مصر سے نکالا گیا۔
پھر وادی طیہ میں آگئے فرعون ڈوب گیا تھا۔ پھر ان کو تھم ہُوا کہ امالکہ نامی قوم پر حملہ کرو۔ انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ پھر چالیس سال تک اُسی وادی میں بھٹکتے رہے۔ یوشع بن نون کے زمانے میں بیت المقدس اِن کو ملا۔ بنی اسر ائیل کا سنہری دور داؤڈ و سلیمان کا دور تھا۔ تقریباً سوسال تک اِن کا یہی دور رہا۔ پھر زوال آگیا کیو نکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، نافر مانی کی، انبیاء کر اٹم کو قتل کیا۔
تور رہا۔ پھر زوال آگیا کیو نکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، نافر مانی کی، انبیاء کر اٹم کو قتل کیا۔
تورات کے معنی اور احکام بدل ڈالے۔

عیسی کے آنے سے آٹھ سوسال پہلے یہ لوگ دو فرقوں میں بٹ ٹیکے تھے۔ شالی اور جنوبی ریاست۔ پھر پہلے شالی حصّہ اور پھر جنوبی حصّہ بھی بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ عیسی سے دوسوسال پہلے اِن پر مزید حملے ہوئے۔ پھر 600ق میں بابلی حکمر ان نے اِن پر حملہ کر کے یہود کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ ہیکل اور تورات تک دُنیاسے غائب ہو چکے تھے۔ اخلاقی زوال آگیا۔

تقریباً 100 سال تک بید دُنیامیں ذلیل ہوتے رہے۔" خُیرِ بَٹُ عَلَیٰہِ مُر النِّلَّةُ ۔ ۔" اِن پر ذلت جِعائی رہی۔ پھر عزیر 'آئے ، اُس کے بعد بائبل دوبارہ لکھی گئی۔ بیداصل تورات نہیں ہے۔ بیدان کی ہسٹری کی کتاب ہے۔ جس میں سیرت لکھی گئی۔ چالیس لو گوں نے مل کر بیہ کتاب لکھی۔ پھر رومن لوگوں نے اِن پر حملہ کیا۔ اِن پر قبضہ کیا اور اِن کی مذہبی آزادی ختم کر دی۔ ان کو مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کو ہیت المقدس سے نکال دیا گیا۔ ان کے بزرگوں نے کہا کہ اَب عرب میں اللہ کے نبی آئیں گے۔ یہ شام کے حلقوں سے نکل کر مدینہ میں آکر آباد ہو گئے۔

انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اَب اللہ کے نبی آ جائیں توہم اُن کے ساتھ مل کر اللہ کا دین پھیلائیں گے۔وہ ہماراساتھ دے گا۔

لیکن پھر حسد اور تعصب کی وجہ سے اللہ کے نبی گاساتھ نہ دیا اور" خُرِبَتْ عَلَیْهِمُ النِّلَّةُ" ذلت اور مسکنت اِن پر چھا گئی اور آج تک اُس کا شکار ہیں۔

جب کوئی قوم اللہ کا حکم نہیں مانتی تواللہ اُن کو دُنیا میں بھی ذلیل ور سوا کر دیتا ہے۔ ہم مسلمان آج اپنا حال دیکھ لیں۔اللہ ہمیں سمجھار ہے ہیں۔جب ہم اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پھر ہی عرّت ملتی ہے۔

مفسرین گہتے ہیں کہ" اِلَّا بِحَبْلِ مِن الله اسلام اسلام اور ہے کہ اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مفسرین گہتے ہیں کہ " اِلَّا بِحَبْلِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کی دی ہوئی شریعت پر عمل کریں۔ اللّٰہ کے احکام کومانیں تو پھر ہی ترقی اور فلاح ملے گی۔ اور مسکنت اور ذلت سے نے جائیں گے۔

ہم نے کیا کرناہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑلیں۔ مسلمان قر آن اور سُنّت سے جُڑ جائیں۔ جب قومیں اللہ کی کتاب سے جڑ جاتی ہیں تو قومیں عزّت یا لیتی ہیں۔

أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين" (روالامسلم). بشك الله اس كتاب سے بعض لو گول كوعرفت دے گا اور بعض كو ذليل كرے گا۔

امت مسلمہ کے کرنے کے کام:

توحید پر قائم رہیں۔اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔

👊 سُنتوں سے محبت کریں اور اُن پر عمل کریں۔

🛂 تقویٰ پر مضبوطی سے جمے رہیں۔

🥦 اجتماعیت کی بات کریں۔

🛂 آپس میں اتحاد ہو۔

🛂 عبادات کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔

🛂 دو سروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں۔

🛂 حکمتِ عملی رکھیں۔

🐷 علم حاصل کریں۔ محنت کریں۔ آگے بڑھ جائیں۔

ووسروں کے لئے اعلیٰ مثالیں قائم کریں۔